

برامپٹن سٹی کونسل نے ذخائر کے لیے ریکارڈ حصے اور مسلسل دوسری مرتبہ ٹیکس میں بغیر کسی اضافے کے 2020 بجٹ کی منظوری دے دی

کمیونٹی کو اولین ترجیح: خدمات میں اضافہ اور مستقبل کی تیاری

برامپٹن، آن (26 فروری 2020) – آج کونسل کی ایک خصوصی میٹنگ کے دوران، سٹی آف برامپٹن کا 2020 بجٹ کونسل کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔

کونسل کے اس دور کے لیے یہ دوسرا مسلسل سال ہے، جب سٹی کے بجٹ میں پراپرٹی ٹیکس میں 0% اضافہ کیا گیا ہے۔

یہ بجٹ یقینی بنائے گا کہ سٹی کے پروگرام اور خدمات کی فراہمی کے درجات کو برقرار رکھا جائے یا بڑھایا جائے؛ سٹی کے انفراسٹرکچر کو قابل استحکام درجات پر رکھنے کے لیے لیویز برقرار رہیں؛ اور یہ کہ معاشی بڑھوتری اور نوکریوں کی تخلیق کے مواقع پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاریاں جاری رہیں۔

شماریات کے مطابق

- منظور شدہ 2020 بجٹ ٹیکس بل میں سے سٹی کے حصے میں پراپرٹی ٹیکس کو 0% اضافے پر روکے گا۔
- 2020 کے ٹیکس بل میں کیا ہو گا؟ سٹی کا 0.0% + علاقے کا 1.3% + اسکول بورڈز کا 1.3% = 0% (اوسط \$64 فی گھرانہ)
- سٹی کے عمل درآمد کے کل اخراجات میں \$47 ملین کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے رقم تخمینہ شدہ بڑھوتری، آمدنی میں اضافے اور طوفانی پانے کے چارج سے آئے گی۔
- 2020 بجٹ \$977 ملین کی مالیت کا ہے، جس میں سے \$755 ملین عمل درآمد کا بجٹ ہے (عملے کی تنخواہیں، دیکھ بھال، یوٹیلٹیز، ذخائر) اور \$222 ملین سرمایہ کا بجٹ ہے (خریداری، بڑی مرمت اور اثاثوں کی تبدیلی: سڑکیں، عمارتیں وغیرہ)۔
- سٹی کے بجٹ میں سٹی کے ذخائر میں اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ \$110 ملین شامل ہے، جو سٹی کی معاشی حالت کو بہتر بناتا ہے۔
- 2020 بجٹ میں ٹرانزٹ کے لیے 1% لیوی اور انفراسٹرکچر کے لیے 2% لیوی شامل ہے، تاکہ بسوں، سڑکوں اور سہولت گاہوں، جیسے اثاثوں کو اچھی حالت کار میں رکھا جا سکے اور یقینی بنایا جا سکے کہ سٹی کی ترقی جاری رہے۔

اپنے شہر کی تعمیر – سرمایہ بجٹ کی شہ سرخیاں

- بسوں کی خریداری کے لیے \$52 ملین، بشمول آٹھ الیکٹرک بسیں
- سڑکوں اور فعال نقل و حمل میں بہتریوں کے لیے \$41 ملین
- کھیلوں کی جگہوں، چلنے کے راستوں اور کھیل کے میدانوں کو بہتر کرنے کے لیے تین سالوں کے دوران \$9.8 ملین
- سنجری گارڈنز اور ساؤتھ فلیچرز ریکریٹیشن سنٹرز میں دو نئے یوتھ سنٹرز کے لیے \$2 ملین
- کمیونٹی کی حفاظت کے علاقوں میں فوٹو ریڈار کے لیے تین سالوں کے دوران \$650,000

کمیونٹی کی جانب سے تشکیل یافتہ

سٹی نے لوگوں کو 2020 بجٹ کے حوالے سے اپنی رائے فراہم کرنے کے کئی مواقع فراہم کیے، بشمول بذریعہ ای میل، بذریعہ فون اور ایک ٹیلیفون ٹاؤن ہال کے ذریعے، جس میں 7,500 افراد نے شرکت کی۔

سٹی نے کئی شہریوں، تنظیموں اور فریقین کی آراء بھی حاصل کیے، جنہوں نے بجٹ کمیٹی کے سامنے اپنی تجاویز پیش کیں۔

بجٹ کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے، سٹی کی ویب سائٹ www.brampton.ca/budget ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"کونسل نے 2020 کا ایک ایسا بجٹ منظور کیا ہے، جس کے نتیجے میں برامپٹن کینیڈا کا واحد ایسا بڑا شہر بن گیا ہے، جس نے مسلسل دو سال ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا۔ اس بجٹ میں لیویز کے ذریعے انفراسٹرکچر اور ٹرانزٹ میں کلیدی سرمایہ کاریاں شامل ہیں، تاکہ بڑھتے ہوئے شہر کی ضروریات کو پورا کرنا جاری رکھا جا سکے۔ منظور شدہ بجٹ میں ذخائر میں سٹی کی تاریخ کا اب تک سب سے بڑا اضافہ شامل ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن؛ چیئر، بجٹ کمیٹی

"ہمارے 2020 بجٹ کی تشکیل کا عمل ایک پراشترک طریقہ کار سے انجام پایا، جس کے تحت 7,500 رہائشیوں نے بجٹ کے عمل میں حصہ لیا اور کئی شہریوں نے بجٹ کمیٹی کے سامنے وفود کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہمارا کونسل کو ایک ایسے نتیجے پر فخر ہے، جو یقینی بناتا ہے کہ سٹی اپنے ٹیکس دہندگان کے لیے ابھی اور مستقبل میں ان کے پیسے کی قدر کو زیادہ سے زیادہ کر رہا ہے۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس شیئر، بجٹ کمیٹی

"منظور شدہ 2020 بجٹ کونسل کے اس عہد کی ترجیحات کے مطابق حکمت عملی کے تحت سرمایہ کاریاں فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ میں اس بات کو یقینی بنانے میں عملے کی لگن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ یہ ذمہ دار بجٹ ہمارے رہائشیوں کے لیے اعلیٰ معیاری خدمات کی فراہمی کو بہتر بنائے، جس سے ہمارے آپ کے ٹیکس دہندگان کا احترام ظاہر ہو، جبکہ مستقبل کے لیے تیاری بھی ہو۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 Monika.Duggal@brampton.ca